



### برامپٹن ریکرییشن میں منعقد کیے جانے والے موسم خزاں کے بالمشافہ پروگراموں کے لیے رجسٹریشن کرانیں جن کا آغاز 1 ستمبر سے ہو رہا ہے

برامپٹن، آن (18 اگست 2021) – سٹی آف برامپٹن کووڈ-19 کی عالمی وباء کے بعد پہلی مرتبہ اپنے رجسٹر شدہ پروگراموں کا محفوظ طریقے سے آغاز کر رہا ہے اور اس سلسلے میں 20 ستمبر کو شروع ہونے والے پروگراموں کے لیے 1 ستمبر سے رجسٹریشن کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔

28 اگست سے یہ پروگرام ملاحظہ کرنے کے لیے [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) پر بھی دستیاب ہوں گے۔ دستیاب پروگراموں میں تیراکی اور اسکیٹنگ کے اسباق، جمناسٹک، کھیل سیکھنے کے پروگرام اور مزید بہت کچھ شامل ہو گا! اس سال برامپٹن ریکرییشن موسم خزاں کے رجسٹر شدہ پروگراموں کے لیے دو مختصر اسباق پیش کرے گا، ایک پروگرام کا انعقاد 20 ستمبر تا 7 نومبر تک کیا جائے گا جبکہ دوسرا پروگرام 8 نومبر تا 19 دسمبر تک چلے گا۔

#### رجسٹریشن

1 ستمبر سے شروع ہونے والے پروگراموں میں رجسٹر ہونے کے لیے، 311 پر کال کریں یا [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) پر رجسٹریشن آن لائن ملاحظہ کریں۔

عوام الناس برامپٹن ریکرییشن کے اپنے موجودہ اکاؤنٹ کے ذریعے یا ایک نئے اکاؤنٹ کے ساتھ بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ استعمال کنندگان کی رہنمائی کے لیے، طریقہ کار کے ٹیوٹوریل یہاں دستیاب ہیں [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) پر ایک نیا اکاؤنٹ بنائیں، ایک کورس میں رجسٹریشن کرانیں، رکنیت خریدیں اور مزید۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں، تو معاونت کے حصول کے لیے ہماری ٹیم کو [recreation@brampton.ca](mailto:recreation@brampton.ca) پر ای میل بھیجیں۔ رجسٹریشن کے عمل میں معاونت کے لیے، رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ متبادل طور پر 311 (یا اگر برامپٹن سے باہر رہائش پذیر ہوں، تو 905.874.2000) پر کال کریں۔

شہر بھر میں ٹریننگ سسٹم کی بالمشافہ نشستیں 27 اگست تک دستیاب ہوں گی۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سسٹم اسپیشلسٹ کے ساتھ ایک بالمشافہ اپوائنٹمنٹ کے لیے رجسٹر کریں اور رجسٹریشن سسٹم کے استعمال کا طریقہ سیکھیں، سوالات پوچھیں اور مستقبل کے حوالہ کے لیے مفید مشورے حاصل کریں۔ بکنگ یہاں پر دستیاب ہے۔

#### کووڈ-19 کے صحت اور حفاظت کے اقدامات

اپنے سرپرستان، عملے اور کمیونٹی کی خیر و عافیت برامپٹن کے لیے بدستور ایک اعلیٰ ترین ترجیح رہے گی۔ ہم اپنے وزیٹرز اور عملے کو ایک صاف ستھرا اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔

برامپٹن ریکرییشن محدود کردہ گنجائش، چہرے کے ماسک کو لازمی قرار دینے، استقبالیہ کے مقامات میں حفاظتی رکاوٹوں اور فرنیچر/آلات کو نئے سرے سے ترتیب دینے کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے تمام سہولیات اور پروگراموں کو گورنمنٹ آف اونٹاریو اور پبلک ہیلتھ کی جانب سے صحت اور تحفظ کے رہنماء اصولوں پر عمل درآمد کو جاری رکھے گا۔ اس میں یہ بھی شامل ہیں؛ کثرت سے چھوئے جانے والی جگہوں کی صفائی، تمام ریکرییشن سنٹرز میں سینٹائزر سٹیشنز کا قیام، صفائی کا معائنہ کرنے کے لیے وقف شدہ عملہ اور تمام عملے کو کووڈ-19 سے متعلق خصوصی تربیت کی فراہمی۔

پرابھوت کینتھ  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن  
905-874-3426 | [Prabhiot.Kainth@brampton.ca](mailto:Prabhiot.Kainth@brampton.ca)